

# Job

## Chapter 39

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	הַיְדוּעָה	עַתָּה	לְיָדָה	יַעֲלֶי-	סָלַע	חִלְלָה	אֵילוֹת	תִּשְׁמַר:
	کیا-تو-جاننا-بے	وقت	جنے-کا	پہاڑی-بکریوں-کے	چٹان	درد-زہ	برنیوں-کا	کیا-تو-دیکھتا-بے
	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H3205</a>	<a href="#">H3277</a>	<a href="#">H5553</a>		<a href="#">H0355</a>	<a href="#">H8104</a>

بے؟ کرتا ملاحظہ کو اس ٹو کیا تو بے دیتی جنم بچہ اپنا برنی جب ہیں؟ بوتے پیدا کب بچے کے بکریوں پہاڑی کہ بے معلوم تجھے کیا

2	תְּסַפֵּר	יְרַחֵם	תְּמַלְאנָה	יְוִדְעָה	עַתָּה	לְדַתְנָה:
	کیا-تو-گنتا-بے	مہینے	جو-وہ-پوری-کرتی-ہیں	اور-کیا-تو-جاننا-بے	وقت	اُن-کے-جنے-کا
	<a href="#">H3391</a>		<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H3205</a>

ہیں؟ دیتی جنم بچے وقت کس کہ بے جاننا ٹو کیا ہوں؟ میں پیٹ کے برنیوں بچے جب بے ربتا گنتا مہینے وہ ٹو کیا

3	תִּכְרַעְנָה	יִלְדִיָּהּ	תִּפְלִחְנָה	חֶבְלֵיהֶם	תִּשְׁלַחְנָה:
	وہ-جھکتی-ہیں	اپنے-بچوں-کو	وہ-جنتی-ہیں	اُن-کے-درد	وہ-بھیجتی-ہیں
	<a href="#">H3766</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H6398</a>		<a href="#">H7971</a>

بے-جاتا ہو ختم زہ درد اور آتے نکل بچے جاتی، دیک وہ دن اُس

4	יַחְלִמוּ	בְּנֵיהֶם	יִרְבּוּ	בְּכֹר	יִצְאוּ	וְלֹא-	שָׁבוּ	לְמוֹ:
	مضبوط-ہوتے-ہیں	اُن-کے-بچے	وہ-بڑھتے-ہیں	کھلے-میدان-میں	وہ-نکل-جاتے-ہیں	اور-نہیں	لوٹتے	اُن-کے-پاس
					<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7725</a>	

آتے-نہیں واپس پاس کے ماں اپنی اور ہیں جاتے چلے دن ایک پھر پھولتے، پھلتے میں میدان کھلے کر ہو ور طاقت بچے کے اُن

5	מִי-	שִׁלַּח	פָּרָא	חֶפְשִׁי	וּמִסְרוֹת	עֲרוֹד	מִי	פָתַח:
	کس-نے	چھوڑا	جنگلی-گدھے-کو	آزاد	اور-بندھنوں-کو	گور-خر-کے	کس-نے	کھولا
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H6501</a>	<a href="#">H2670</a>	<a href="#">H4147</a>	<a href="#">H6171</a>	<a href="#">H4310</a>	

دیئے؟ کھول رسے کے اُس نے کس دیا؟ چھوڑ کھلا کو گدھے جنگلی نے کس

6	אֲשֶׁר-	שְׂמֹתֵי	עֲרֵבָה	בֵּיתוֹ	וּמִשְׁכְּנוֹתָיו	מְלַחָה:
	جس-کا	میں-نے-بنایا	بیابان-کو	اُس-کا-گھر	اور-اُس-کی-ربائش-گاہیں	شور-زمین
			<a href="#">H6160</a>		<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H4420</a>

ہو-گاہ ربائش کی اُس زمین بنجر کہ کیا مقرر نے ہی میں دیا، بنا گھر کا اُس بیابان نے ہی میں

7	יִשְׁחַק	לְהִמְנוֹן	קְרִיָּה	תִּשְׁאֹזֵת	נֹזֵז	לֹא	יִשְׁמַע:
	وہ-ہنستا-بے	شہر-کے-شور-پر	شہر-کے	چلانا	بانکنے-والے-کا	نہیں	سنتا
	<a href="#">H7832</a>		<a href="#">H7151</a>	<a href="#">H8663</a>	<a href="#">H5065</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8085</a>

پڑتی-نہیں سننی آواز کی والے بانکنے اُسے اور اُٹھتا، ہنس کر دیکھ شرابہ شور کا شہر وہ

8	יְתוֹר	הָרִים	מְרִיעָהוּ	וְאָחָר	כָּל-	יְרוֹק	יִדְרוֹשׁ:
	وہ-ڈھونڈتا-بے	پہاڑوں-کو	اُس-کی-چراگاہ	اور-بیچھے	ہر	سبز-چیز-کے	وہ-تلاش-کرتا-بے
	<a href="#">H3491</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H4829</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3387</a>	<a href="#">H1875</a>

بے-ربتا لگاتا کھوج کا بریالی اور گھومتا اُدھر اُدھر میں علاقے پہاڑی لئے کے چرنے وہ

9	הִיאָבָה	רִים	עֲבָדָהּ	אִם-	יָלִין	עַל-	אֲבוֹסָדָהּ:
	کیا-راضی-ہوگا	جنگلی-بیل	تیری-خدمت-کرنے-کو	کیا	وہ-رات-گزارے-گا	پر	تیری-چرنی
	<a href="#">H0014</a>	<a href="#">H7214</a>	<a href="#">H5647</a>				<a href="#">H0018</a>

گا؟ گزارے پاس کے چرنی تیری کو رات کبھی وہ کیا گا؟ ہو تیار لئے کے کرنے خدمت تیری بیل جنگلی کیا

10	הַתְּקִינָה	רִים	בְּתָלֵם	עֲבָתוֹ	אִם	יִשְׁדָּד	עֲמֻקִּים
	کیا-تو-باندھ-سکتا-ہے	جنگلی-بیل-کو	سیاڑ-میں	اُس-کی-رسی-سے	کیا	وہ-ہموار-کرے-گا	وادیوں-کو
	<a href="#">H7194</a>	<a href="#">H7214</a>	<a href="#">H8525</a>	<a href="#">H5688</a>		<a href="#">H7702</a>	<a href="#">H6010</a>

اخیراً:  
تیرے-پیچھے

گا؟ پھیرے سہاگا کر چل پیچھے تیرے میں وادی وہ کیا ہے؟ سکتا چلا بل کر باندھ اُسے تو کیا

11	הַתְּבַטַּח	בּוֹ	כִּי	רַב	זָכוֹ	וְתַעֲזֹב	אֱלֹהֵי	יְנִיעֶדָה:
	کیا-تو-بھروسا-کرے-گا	اُس-پر	کیونکہ	بڑی-ہے	اُس-کی-طاقت	اور-کیا-تو-چھوڑے-گا	اُس-پر	اپنی-محنت
	<a href="#">H0982</a>						<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3018</a>

گا؟ کرے سپرد کے اُس کام سخت اپنا تو کیا گا؟ کرے اعتماد پر اُس کر دیکھ طاقت بڑی کی اُس تو کیا

12	הַתְּאַמִּין	בּוֹ	כִּי	(יִשׁוּב)	זְרַעַד	וְנָרְדָה	יֶאֱסֹף:
	کیا-تو-یقین-کرے-گا	اُس-پر	کہ	وہ-لوٹائے-گا	تیرا-بیج	اور-تیرے-کھلیان-کو	جمع-کرے-گا
	<a href="#">H0539</a>			<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H1637</a>	<a href="#">H0622</a>

نہیں! برگز آنے؟ لے پر جگہ کی گاہنے کے کر جمع اناج تیرا وہ کہ ہے سکتا کر بھروسا تو کیا

13	כִּנְפֵי	רַנְנִים	נִעְלָסָה	אִם	אֲבָרָה	חֲסִידָה	וְנִצְחָה:
	پر	شتر-مرغ-کا	خوشی-سے-پھڑپھڑاتا-ہے	کیا	پروں-کا	لق-لق-کا	اور-پروں-کا
	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H7443</a>	<a href="#">H5965</a>		<a href="#">H0084</a>	<a href="#">H2624</a>	<a href="#">H5133</a>

ہے؟ مانند کی پر شاہ کے باز یا لق پر شاہ کا اُس کیا لیکن ہے۔ پھڑپھڑاتا کو پروں اپنے سے خوشی مرغ شتر

14	כִּי	תַעֲזֹב	לְאֶרֶץ	בְּצִיָּה	וְעַל	עֶפְרַיִם	חַמְמִים:
	کیونکہ	وہ-چھوڑتی-ہے	زمین-پر	اپنے-انڈے	اور-پر	منی	گرم-کرتی-ہے
		<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1000</a>	<a href="#">H6083</a>		<a href="#">H2552</a>	

ہیں۔ پکتے پر بی منی وہ اور ہے، چھوڑتا اکیلے پر زمین انڈے اپنے تو وہ

15	וְתִשְׂכַח	כִּי	הַיְנֵל	תִּזְוָרָה	וְחִתָּה	הַשָּׂדֶה	תִּדְוִשָּׁה:
	اور-وہ-بھول-جاتی-ہے	کہ	پاؤں	انہیں-کچل-دے-گا	اور-جانور	میدان-کا	انہیں-روند-ڈالے-گا
	<a href="#">H7911</a>		<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H2115</a>			<a href="#">H1758</a>

ہے۔ سکتا روند انہیں جانور جنگلی کوئی یا سکتا کچل تلے پاؤں انہیں کوئی کہ آتا نہیں تک خیال کو مرغ شتر

16	הַקְּשִׁיחַ	בְּנִיָּה	לְלֹא	לָהּ	לְרִיק	יְנִיעֶדָה	בְּלִי	פָּחַד:
	وہ-سختی-سے-پیش-آتی-ہے	اپنے-بچوں-سے	گویا-نہیں	اُس-کے	بے-فائدہ	اُس-کی-محنت	بغیر	خوف-کے
	<a href="#">H7188</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H7385</a>		<a href="#">H3018</a>	<a href="#">H1097</a>	<a href="#">H6343</a>

نہیں، ہی پروا اُسے تو نکلے ناکام محنت کی اُس اگر ہے۔ سخت اتنا سلوک ساتھ کے اُن کا اُس کیونکہ ہیں، بجے اپنے کے اُس کہ نہیں لگتا

17	כִּי	הַשָּׂדֶה	אֱלֹהֵי	חֲכֻמָּה	וְלֹא	חֲלָק	לָהּ	בְּבִינָה:
	کیونکہ	بھلا-دیا	خدا-نے	حکمت	اور-نہیں	دیا	اُسے	سمجھ-میں-حصہ
		<a href="#">H5382</a>	<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H3808</a>			<a href="#">H0998</a>

نوازا۔ نہ سے سمجھ اُسے کر رکھ محروم سے حکمت اُسے نے اللہ کیونکہ

18	כָּעֵת	בְּמָרוֹם	תִּמְרֵי	תִּשְׁחַק	לְסוֹס	וְלִדְבָבוֹ:
	جب	اونچائی-پر	وہ-اڑتی-ہے	وہ-ہنستی-ہے	گھوڑے-پر	اور-اُس-کے-سوار-پر
	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H4791</a>	<a href="#">H4754</a>	<a href="#">H7832</a>		<a href="#">H7392</a>

ہے۔ لگتا ہنسنے کر دیکھ دوڑ کی گھڑسوار اور گھوڑے کہ ہے جاتا بھاگ کر اچھل سے تیزی اتنی وہ تو بھی

19	הַתָּוֶן	לָסוֹס	גְּבוּרָה	הַתְּלָבִישׁ	צִוְאָרוֹ	רַעְמָה:
	کیا-تو-دیتا-ہے	گھوڑے-کو	طاقت	کیا-تو-پہناتا-ہے	اُس-کی-گردن-پر	ایال
	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H1369</a>	<a href="#">H3847</a>		<a href="#">H7483</a>

ہے؟ کرتا آرامتہ سے ایال کو گردن کی اُس کر دے طاقت کی اُس کو گھوڑے تُو کیا

20	הַתְּרַעֲשָׁנוּ	קְאָרְבָה	הוֹד	נַחְרוֹ	אֵימָה:
	کیا-تو-اُسے-کدواتا-ہے	ٹڈی-کی-طرح	شان	اُس-کے-بنہانے-کی	دبشت
	<a href="#">H7493</a>	<a href="#">H0697</a>	<a href="#">H1935</a>		<a href="#">H0367</a>

ہے!گتا دار رُعب کتنا تو ہے نکالتا آواز کر پُھلا کو نتھنوں اپنے سے زور وہ جب ہے؟ دیتا پھلانگنے طرح کی ٹڈی اُسے ہی تُو کیا

21	יַחְפְּרוּ	בַּעֲמֹק	וְיִשִּׁישׁ	בְּכַח	יִצְאָ	לְקִרְאָת־	נִשְׁק:
	وہ-کھودتے-بیں	وادی-میں	اور-وہ-خوش-ہوتا-ہے	طاقت-میں	وہ-نکلتا-ہے	ملنے-کو	بتھیار-سے
	<a href="#">H2658</a>	<a href="#">H6010</a>	<a href="#">H7797</a>		<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H7125</a>	<a href="#">H5402</a>

ہے۔جاتا آ میں جنگ میدانِ کر بھاگ پھر مناتا، خوشی کی طاقت اپنی کر مار مار سُم میں وادی وہ

22	יִשְׁחַק	לְפַחַד	וְלֹא	יַחַת	וְלֹא	אִשׁוּב	מִפְּנֵי	חָרָב:
	وہ-بنستا-ہے	خوف-پر	اور-نہیں	گھبراتا	اور-نہیں	بیچھے-بٹتا	سامنے-سے	تلوار-کے
	<a href="#">H7832</a>	<a href="#">H6343</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2865</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H2719</a>

بٹتا۔نہیں بیچھے بھی رُبوؤ کے تلوار ڈرتا، نہیں بھی سے کسی اور اُڑاتا مذاق کا خوف وہ

23	עָלְיוּ	תִּרְגְּוָה	אֲשַׁפָּה	לְהַב	חֲנִית	וּכְדוֹן:
	اُس-پر	بجتا-ہے	ترکش	چمک	نیزے-کی	اور-برجھی-کی
	<a href="#">H7439</a>	<a href="#">H0827</a>	<a href="#">H3851</a>	<a href="#">H2595</a>		<a href="#">H3591</a>

ہے۔چمکتی شمشیر اور نیزہ کھڑکھڑاتا، ترکش اوپر کے اُس

24	בְּרַעֲשׁ	וְרָגְזוּ	יִנְמְאוּ	אֶרֶץ	וְלֹא	יִצְמִיזוּ	כִּי	קוֹל	שׁוֹפָר:
	تھرتھراہٹ-میں	اور-غصے-میں	وہ-نکلتا-ہے	زمین	اور-نہیں	یقین-کرتا	کہ	آواز-ہے	نرسنگے-کی
	<a href="#">H7494</a>	<a href="#">H7267</a>	<a href="#">H1572</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0539</a>			<a href="#">H7782</a>

جاتا۔نہیں روکا بھی وقت بجتے بگل کہ ہے کرتا حملہ پر دشمن سے خروش و جوش اور تیزی اتنی کر مچا شور بڑا وہ

25	בְּרִי	אֲשָׁפָר	יֵאמַר	הָאֵח	וּמִרְחוֹק	יִרְיַח	מִלְחָמָה	רַעַם	שָׁרִים
	جب	نرسنگا-بجتا-ہے	وہ-کہتا-ہے	بابا	اور-دور-سے	وہ-سونگھتا-ہے	جنگ-کو	گرج	سرداروں-کی
	<a href="#">H1767</a>	<a href="#">H7782</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1889</a>	<a href="#">H7350</a>	<a href="#">H7306</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H7482</a>	<a href="#">H8269</a>

وְתַרְוַעָה:  
اور-للاکار  
[H8643](#)

ہے۔لیتا سونگھ نعرے کے جنگ اور شور کا کمانڈروں جنگ، میدان سے ہی دُور اور بنہناتا سے زور وہ بجے بگل بھی جب

26	הַמְבִּינִתָּהּ	יֶאֱבֵר-	גֵּץ	יִפְרֵשׁ	[כַּנְפוֹ]	(כְּנַפָּיו)	לְתִימָן:
	کیا-تیری-سمجھ-سے	پر-نکالتا-ہے	باز	پھیلاتا-ہے	اپنے-پروں-کو	اپنے-پروں-کو	جنوب-کی-طرف
	<a href="#">H0998</a>	<a href="#">H0082</a>		<a href="#">H6566</a>	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H8486</a>

ہے؟ دیتا پھیلا جانب کی جنوب کو پروں اپنے کر اُڑ میں ہوا ذریعے کے حکمت ہی تیری باز کیا

27	אֵם-	עַל-	פִּיךָ	יִנְבִּיחַ	נִשֵּׁר	וְכִי	יָרִים	קַנּוֹ:
	کیا	پر	تیرے-حکم	اونچا-اُڑتا-ہے	عقاب	اور-کیونکہ	وہ-اونچا-بناتا-ہے	اپنا-گھونسل
			<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H1361</a>	<a href="#">H5404</a>			<a href="#">H7064</a>

ہے؟ لیتا بنا گھونسل اپنا پر جگہوں اونچی اونچی اور منڈلاتا پر بلندیوں پر حکم ہی تیرے عقاب کیا

